

## 2527 - مسلمان کس کتابی عورت سے شادی کرسکتا ہے

### سوال

میں مندرجہ ذیل عبارت کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں :

اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں میں سے عقیف سے شادی کرنا ؟

کیا کتابی عورت سے بوس وکنار شادی میں رکاوٹ ہے ؟

میں نے آپ کے جواب میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمان کو عفت و عصمت کی مالک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تو کیا

یہ صرف کتابی لڑکی کے لیے ہے یا کہ مسلمان لڑکی بھی اس میں شامل ہے ؟

اور کیا بوس وکنار عفاف کی تعریف میں شامل ہے ؟ اور ایسے مسلمان نوجوان کو آپ کیا نصیحت کریں گے جس کا

اعتقاد ہو کہ شادی سے قبل لمس ضروری ہے ؟

میری گزارش ہے کہ یہ سوال نشر نہ کیا جائے بلکہ میرے اور آپ کے مابین ہی راز رہنا چاہیے اس کا جواب مجھے

آپ ای میل کر دیں - میں آپ کے تعاون پر مشکور ہوں -

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب : جامع البیان عن تاویل آی القرآن میں المحصنة کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں :

جب کوئی عورت عفت و عصمت اختیار کرے تو کہا جاتا ہے حصنت ، تحصن ، حصانة ، اور حاصن من النساء یعنی عورتوں میں سے عقیفہ عورت کو حاصن کہا جاتا ہے --- اور ایک قول یہ بھی ہے : شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی اور بے حیائی سے بچنے والی کو محصنہ کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها اور مريم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی -

یعنی اس نے شک و شبہ سے اپنی حفاظت کی اور فجور و بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ، پھر اس کے بعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ کی تفسیر کے بارہ میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں :

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ... اور مومنوں میں سے پاکباز عورتیں

اورجنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے ان کی پاکباز عورتیں - - - -

ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے یہ مراد لیا ہے :

مومنوں میں سے پاکباز عورتیں اورجنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے ان کی پاکباز عورتیں

یعنی دونوں فریقوں سے پاکباز چاہے وہ تمہاری آزاد عورتیں ہوں یا لونڈیاں اللہ تعالیٰ نے اس قول میں سے اہل کتاب لونڈیاں جو دین والی ہوں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اور مومنوں اور اہل کتاب میں سے حرام کاری کرنے والی عورتیں حرام کی گئی ہیں -

پھر اس کے بعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قول پر کچھ اثر بھی نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ :

اہل تفسیر کا مندرجہ ذیل فرمان کے حکم میں اختلاف ہے :

اورجنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے ان کی پاکباز عورتیں کیا اس کا حکم عام ہے یا کہ خاص ؟

کچھ مفسرین کا کہنا ہے : یہ ان میں سے عفاف کے بارہ میں عام ہے ، کیونکہ محصنات ہی عفاف ہیں اور مسلمان کے لیے ہر اہل کتاب کی آزاد اور لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے ، چاہے وہ ذمیہ ہو یا پھر حریبہ -

اور اس میں انہوں نے مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ کے ظاہر سے دلیل لی ہے :

اورجنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے ان کی پاکباز عورتیں

یہاں پر معنی عفاف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ، یہ قول محصنات سے عفاف مراد لینے والوں کا ہے -

اور کچھ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے اہل کتاب کی وہ عورتیں مراد ہیں جو مسلمانوں کے ذمہ اور معاہدہ میں ہوں لیکن جو اہل حرب کتابی کی عورتیں مسلمان پر حرام ہیں -

ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابی عورت سے نکاح میں ایک بہت ہی اہم شرط ذکر کی ہے جس پر ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا ضروری ہے جو بھی کفار کے ممالک میں رہتا ہوا ان سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس پر غور کرے کہ :

نکاح کرنے والا ایسی جگہ ہو جہاں پر اسے اپنی اولاد کے بارہ میں کفر پر مجبور کیے جانے کا خدشہ نہ ہو - ا ہ

دیکھیں جامع البیان عن تاویل آی القرآن ( 8 / 165 ) -

اور اس کلام کو ہمارے موجودہ دور میں اس طرح فٹ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کفار ممالک میں رہائش پذیر نہ ہو جہاں پر مسلمان کو اپنی اولاد کو مجبوراً کفریہ دین پر پرورش کرنی پڑے وہ اس طرح کہ بچے کو اجباری طور پر کچھ نہ کچھ عیسائی دین پڑھایا جائے اور ہر اتوار کے دن اسے گرجا گھر لے جایا جائے یا پھر یہ قانون ہو کہ کافرہ عورت جب چاہے اپنے بچے کو اپنی کافر قوم کی دین کی تربیت دینا شروع کر دے ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا کر رکھے ، اور ہمیں سلامتی و عافیت سے نوازے ۔

اور شیخ عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر ( 1 / 458 ) میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں :

اور تمہارے لیے آزاد عورتیں حلال کردی گئیں ہیں : یعنی آزاد اور عفت و عصمت کی مالک ، مومنوں میں سے اور محسنات یعنی آزاد اور عفت و عصمت کی مالک ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور نصاریٰ کی عورتیں ، اور یہ مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ کے لیے مخصص ہے :

فرمان باری تعالیٰ ہے :

اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آئیں ۔

اور بے حیائی کرنے والی اور فاجر قسم کی زانی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں چاہے وہ عورتیں مسلمان ہوں یا کتابی ، جب تک وہ توبہ نہیں کرتیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

زانی مرد زانیہ یا پھر مشرکہ عورت کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتا ، اسی آیت کے آخر میں جا کر فرمایا کہ یہ مومنوں پر حرام ہے ۔

واللہ اعلم .